



والدين كے حقوق

Parents Rights

Etiquettes about Parents

- Parents are Allah's (SWT) mercy on human being;
- There is no substitute for parents;
- Honor and serve parents with dignity, even if they are non-Muslims.

Etiquettes about Parents



Our **Holy Prophet (saww)** said,

".....I advise you to obey your parents and serve them whether they are alive or dead. Obey them even if they ask you to divorce your wife or to surrender your wealth since their obedience in worldly affairs is a part of belief (Imaan)".

Parents' affection and Jihad

- To live with parents and serve them causes affection with them.
- It increases more specifically in old age.
- Their one-day's affection is better than one year's worship.


Parents' affection and Jihad

Once a companion asked our **Holy Prophet (saww)** for his permission to go on Jihad,

The Prophet (saww) said, "If you lay your life in Allah's (SWT) way you will have an eternal life and provision in Paradise, if you die during that even then you will be rewarded by Allah (SWT) and if you are back alive you will be sin-free like a newborn".

The companion said that his parents were old and they could hardly bear his absence.

Allah's Prophet (saww) replied, "Then you remain with them. By Allah (SWT), and His rights on me, your one-day's affection is better than your Jihad for one year".

- 
- A decorative border on the left side of the slide, featuring intricate Islamic calligraphy in red, gold, and black ink, set against a textured, aged parchment background.
- Children who serve their parents will be rewarded with Prophet's companionship in Jannah

A Companion in Paradise

Prophet **Musa's (as)** parable

Once Prophet Musa (as) asked Allah (SWT) to make him meet a person who would be his companion in Paradise. Allah (SWT) first described some qualities of that person and asked Nabi Musa (as) to visit someone at a certain place. When the Uloom Uzm Prophet reached there he met a person who happened to be a butcher.

He started observing as to what act of him would make him Musa's companion in Paradise. When the butcher closed his shop Prophet Musa (as) introduced himself and accompanied him and sought his permission to spend one night at his house. The butcher happily agreed and arranged his stay. Musa observed a vigil to see his acts. He observed that the butcher cooked and fed his mother with his own hands. Next morning he washed his mother's mouth and hands, combed her hair and again fed her. As the mother consumed each bite, she prayed , "O Allah! Make my son Musa's companion in Paradise. Musa ran to give him the tiding that 'due to the service he was Musa's companion in the world as well as in Paradise.

والدین کے حقوق Right of your parents

دس بدن سے -ten related to body

دس زبان سے -ten related to tongue

دس دل سے -ten related to heart

دس مال سے -ten related to wealth

بدن سے متعلق حقوق Ten related to body

Physically help them ۱

- انکی خدمت کرے

Respect them ۲

- انکی احترام کرے

Don't sit before them

۳- ان سے پہلے نہ بیٹھے

Ten related to body بدن سے متعلق حقوق

۴۔ انکے حکم کو اگر شریعت کے خلاف نہ ہو تو
ضرور مانے

If their order is not against the shari'ah
then you must obey it

۵۔ بغیر اجازت کے مستحب روزے نہ رکھے

Without their permission don't keep
mustahab fast/roza

Ten related to body

بدن سے متعلق حقوق

۶۔ جب سامنے اکھڑے ہوں بغیر اجازت کے نہ بیٹھے

If they are standing don't sit without their permission ;

7۔ بغیر اجازت کے غیر واجبی سفر پر نہ جائے
without their permission don't go on non-wajib trips

Ten related to body

بدن سے متعلق حقوق

- چلتے وقت انکے پیچھے چلے

walk behind them^۸

- ہمیشہ انکی طرف محبت سے دیکھے

look at them with love^۹

- ہمیشہ انکی خدمت کرنے کے لیے تیار رہے

always be ready to help them^{۱۰}

Ten related to tongue

زبان سے متعلق حقوق

- نرمی سے بات کرے

1 speak softly with them

- اپنی آواز کو انکی آواز سے بلند نہ
کرے

2 don't raise your voice above
theirs

Ten related to tongue

زبان سے متعلق حقوق

۳۔ انکو انکے نام سے نہ بلائے

don't call them by their name

۴۔ انکی بات کو بیچمیں نہ کاٹے

don't interrupt while they are
talking

۵۔ انکی بات کو رد نہ کرے

زبان سے متعلق حقوق
Ten related to tongue

Donot speak to them in a commanding
voice^٦

- حکمانہ لہجے میں ان سے مخاطب نہ ہو

always pray for them^٧

- ہمیشہ ان کے لئے دعا کرے

don't even say "UF" to them or turn your
back to them^٨

- ان کے سامنے اف تک نہ کرے، ان

سے رخ کو نہ موڑے

زبان سے متعلق حقوق
Ten related to tongue

۹ speak to them politely and respectfully

- ادب اور احترام کے ساتھ ان سے

گفتگو کرے

۱۰ don't speak to them disrespectfully

گستاخی سے بات نہ کرے

دل سے متعلق

Ten related to heart

Treat them with mercy and
stay soft-hearted with
them-۱

ہمیشہ رحم دل ہو، رحم دلی سے
پیش آئے۔

دل سے متعلق

Ten related to heart

- Always respect them and don't feel they are a burden upon you no matter the situation ۲

انکو ہمیشہ دوست رکھے چاہے
اقتصادی

دل سے متعلق

Ten related to heart

.be happy in their
happiness^۳

- انکی خوشی میں خوش ہو

دل سے متعلق

Ten related to heart

- be sad in their
sadness - ۴

انکے غم میں

شریک ہو اور غمخوار ہو

دل سے متعلق

Ten related to heart

don't keep their
enemies as friends .۵

انکے دوشمن سے دوستی نہ
کرے۔

دل سے متعلق

Ten related to heart

Even if they treat you badly
still respect -them-۶

اگر وہ برا کہیں یا برا برتاؤ

کریں تو بھی

منہ نہ موڑے

دل سے متعلق

Ten related to heart

If they are unfair with you still
don't become angry with them--۷

ستم کرے یا

برا برتاؤ کریں تو بھی غصہ نہ کرے۔

دل سے متعلق

Ten related to heart

Try to fullfill all their rights and obligations upon you but still don't feel satisfied with what you have done for them^

- انکا حق ادا کرنے کی

پوری کوشش کرے پھر بھی اپنے آپ کو
قصور وار سمجھے۔

دل سے متعلق
Ten related to heart

always try to make them happy - ۹

ہمیشہ دل

سے انکی خوشنودی کا طالب ہو۔

دل سے متعلق

Ten related to heart

pray for their long life

۱۰۔ دل سے انکی

طول عمر کی دعا کرنی

چاہیے

مال سے متعلق

ten related to wealth

Provide them with
better clothes than
yourself\

- اپنے لباس سے بہتر لباس
پہنائے۔

مال سے متعلق
ten related to wealth

Give them better
food than yourself - ۲

۲۔ اپنے سے بہتر کھانہ
کھلائے

مال سے متعلق
ten related to wealth

۳- Pay off their debts

انکا قرض

ادا کرے۔

مال سے متعلق
ten related to wealth

Pay the expenses for their
mustahab and wajib journeys

۴۔ انکے مستحب یا

واجب سفر کے خرچ کی ذمہ داری
اٹھائے۔

مال سے متعلق
ten related to wealth

If they passed away hire
someone make up their qaza
salat and fasts^o

- اگر دنیا سے

چلے جائیں تو انکے حج، روزہ اور
نماز کے لیے نائب رکھے۔

مال سے متعلق
ten related to wealth

Respect them with
your money ۶

- اپنے

مال سے انکو عزت دے۔

مال سے متعلق
ten related to wealth

Shelter them - ۷

رہنے
کے لیے گھر نہ ہو تو گھر
دے۔

مال سے متعلق
ten related to wealth

Support them financially
in every way possible[^]

- اپنے مال میں انکو اختیار دے
تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری
کر سکیں۔

مال سے متعلق

ten related to wealth

Consider your wealth as their
wealth and don't become upset
if they utilize your money^۹

- اپنے مال کو انکا مال سمجھے اگر وہ
خرچ کریں تو ناراض نہ ہو۔

مال سے متعلق
ten related to wealth

Try to fullfill all their
financial needs - ۱۰

انکی ہر

طرح کی ضرورت کے لیے
خرچ کرے۔

مال سے متعلق ten related to wealth

- ۱۔ اپنے لباس سے بہتر لباس پہنائے۔ provide them with better clothes than yourself-
- ۲۔ اپنے سے بہتر کھانہ کھلائے۔ give them better food than yourself-
- ۳۔ انکا قرض ادا کرے۔ pay off their debts-
- ۴۔ انکے مستحب یا واجب سفر کے خرچ کی ذمہ داری اٹھائے۔ pay the expenses for their mustahab and wajib journeys
- ۵۔ اگر دنیا سے چلے جائیں تو انکے حج، روزہ اور نماز کے لیے نائب رکھے۔ hire someone make up their qaza salat and fasts
- ۶۔ اپنے مال سے انکو عزت دے۔ respect them with your money-
- ۷۔ رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو گھر دے۔ shelter them-
- ۸۔ اپنے مال میں انکو اختیار دے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ support them financially in every way possible
- ۹۔ اپنے مال کو انکا مال سمجھے اگر وہ خرچ کریں تو ناراض نہ ہو۔ consider your wealth as their wealth and don't become upset if they utilize your money-
- ۱۰۔ انکی ہر طرح کی ضرورت کے لیے خرچ کرے۔ try to fulfill all their financial needs-

مال سے متعلق ten related to wealth

- ۱۔ اپنے لباس سے بہتر لباس پہنائے۔ provide them with better clothes than yourself-
- ۲۔ اپنے سے بہتر کھانہ کھلائے۔ give them better food than yourself-
- ۳۔ انکا قرض ادا کرے۔ pay off their debts-
- ۴۔ انکے مستحب یا واجب سفر کے خرچ کی ذمہ داری اٹھائے۔ pay the expenses for their mustahab and wajib journeys
- ۵۔ اگر دنیا سے چلے جائیں تو انکے حج، روزہ اور نماز کے لیے نائب رکھے۔ hire someone make up their qaza salat and fasts
- ۶۔ اپنے مال سے انکو عزت دے۔ respect them with your money-
- ۷۔ رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو گھر دے۔ shelter them-
- ۸۔ اپنے مال میں انکو اختیار دے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں۔ support them financially in every way possible
- ۹۔ اپنے مال کو انکا مال سمجھے اگر وہ خرچ کریں تو ناراض نہ ہو۔ consider your wealth as their wealth and don't become upset if they utilize your money-
- ۱۰۔ انکی ہر طرح کی ضرورت کے لیے خرچ کرے۔ try to fulfill all their financial needs-

والدین کے وفات کے بعد کے حقوق

- ۱۔ غسل، کفن اور دفن میں جلدی کرے۔
- 1. Haste in the performance of burial and funeral.
- ۲۔ کفن اور دفن کے زیادہ خرچ کو بوجھ نہ سمجھے۔
- 2. Do not consider funeral expenses as a burden.
- ۳۔ انکے مراسم تدفین کو شریعت کے حکم کے مطابق انجام دے۔
- 3. Perform his/her funeral rituals in accordance with the Islamic Laws.
- ۴۔ انکی وصیت کے مطابق عمل کرے، اسکے خلاف کوئی کام انجام نہ دے۔
- 4. Act according to his/her will, do not behave against it.
- ۵۔ شبِ تدفین نماز وحشت پڑھے اور انکے لیے دعا کرے۔
- 5. Offer Salat-e-Wahshat on the night of his/her burial and pray for them.

Parents Rights After death

- ۶۔ تدفین کے خرچ کو ادا کرے اور اس میں مدد کرنے والوں کا شکریہ ادا کرے۔
- 6. Pay the expenses of the funeral and be grateful to those who contributed.
- ۷۔ دفن و کفن میں کسی اور نے مالی تعاون کیا ہو تو فوراً ادا کرے اور مقروض نہ رہے۔
- 7. Those who contributed in the funeral expenses should be paid back as soon as possible and do not stay in debt.
- ۸۔ اگر ۱/۳ کی وصیت کی ہو تو مال سے فوراً ادا کرے باقی مال کو ورثہ کو خود دے۔
- 8. If 1/3 of the will is already allocated then pay the funds instantly and rest should be given to next to kins.
- ۹۔ انکے لیے ہر روز قرآن پڑھے۔
- 9. Recite Quran every day for them.
- ۱۰۔ ہر نماز کے بعد انکے لیے دعا کرے بلخصوص نماز شب اور خاص وقت دعا میں انہیں فراموش نہ کرے۔
- 10. Pray for them in every Salat especially in the Salat-e-Shub (nightly prayer) and do not forget them in your special prayers.

والدین کے وفات کے بعد کے حقوق

- ۱۱- ہر روز انکی طرف سے صدقہ دے۔
- 11. Every day give charity on their behalf.
- ۱۲- ہر روز نماز ہدیہ والدین ادا کرے۔
- 12. Perform daily Salat-e-Hadya for parents.
- ۱۳- رحلت والدین کے غم میں صبر کرے۔
- 13. Have patience in the grief of departure of parents.
- ۱۴- انکی قضاء نمازوں کو خود پڑھے یا کسی کو اجرت دے کر پڑھوائے۔
- 14. Offer their Qadha (missed) prayers or have someone to offer these for a payment.
- ۱۵- انکے قضاء روزوں کو خود رکھے یا اجرت دے کر رکھوائے۔
- 15. Offer their Qadha (missed) fasts or have someone to offer these for a payment

Parents Rights After death

- ۱۶۔ انکی قبر کی زیارت کے لیے جائے کیونکہ یہ عمل حج کا ثواب رکھتا ہے۔
- 16. Visit their grave because this action is equivalent to the reward of Hajj
- ۱۷۔ قبرستان میں جا کر ایتة الکرسی، قرآن، سورة فاتحه اور صلوة کی تلاوت کرے اور اس کا ثواب انکی روح کو ہدیہ کرے۔
- 17. Recite Ayat-ul-Kursi, Quran and Surah Fateha, and Salwat when visiting graveyard and gift the reward of this recitation to their souls.
- ۱۸۔ جب زیارت مقام مقدسہ کا شرف حاصل ہو تو انکی نیابت میں زیارت پڑھے۔
- 18. When visiting holy places then recite the zyarat on their behalf.
- ۱۹۔ انکی نیابت میں عمرہ کرے۔ اگر حج واجب کے لیے گیا ہے تو وقت فراغت میں انکی طرف سے طواف کرے۔
- 19. Perform Umrah on their behalf. If performing obligatory Hajj then in spare time perform tawaf on their behalf.
- ۲۰۔ اگر اپنا حج انجام دے چکا ہے تو انکی طرف سے حج کے لیے جائے۔
- 20. If one has performed their own obligatory Hajj then perform Hajj on their behalf.

والدین کے وفات کے بعد کے حقوق

- ۲۱۔ اگر انہوں نے کسی کو ناراض کیا ہو یا کسی کی حق تلفی کی ہو تو زبان سے یا کسی بھی صورت میں انکو راضی کرے۔
- 21. If they have upset someone or did not fulfill the rights then persuade them either verbally or by any means possible.
- ۲۲۔ بعنوان رد مظالم مال فقیر کو دے تاکہ کسی کی حق تلفی کی ہو تو انکی گردن پر نہ رہے۔
- 22. In the an attempt to remove their cruel deeds give charity to needy.
- ۲۳۔ حتی الامکان ہفتہ یا مہینے میں مجلس سید شہدا کا احتتام کرے انکی طرف سے۔
- 23. Do all efforts on their behalf perform Majlis-e-Syed Shuhdah weekly or monthly.
- ۲۴۔ اگر کسی سنت حسنہ کو جیسے سالانہ مجلس میں تبرک، قربانی، یا دعوت کرتے تو اسے جاری رکھے۔
- 24. Continue their good tradition such as arranging tabaruk in yearly Majlis, sacrifice, or dinner.
- ۲۵۔ اگر کسی کارخیر کو نا تمام چھوڑ گئے ہوں تو اسکو پورا کرے۔
- 25. Complete their left behind unfinished good deed.

Parents Rights After death

- ۲۶۔ اگر انہوں نے کسی کے مال کو غصب کیا تھا تو فوراً اسکے مالک کو ادا کرے (جیسے مسجد میں دوکان)۔
- 26. If they have usurped someone's belonging then instantly return it (such as a shop in a mosque).
- ۲۷۔ اگر خمس یا زکاة ادا نہ کی ہو تو فوراً ادا کرے۔
- 27. If they have not paid Khums or Zakat then instantly pay.
- ۲۸۔ کسی کے ماں باپ کو برا نہ کہے کہ وہ اس کے والدین کو برا کہیں۔
- 28. Do not say bad about others parents otherwise others will say the same in return.
- ۲۹۔ خود ایسا کام نہ کرے کہ لوگ اسکے والدین کو برا کہیں۔
- 29. One should not perform such a deed that people will call ones parent bad.
- ۳۰۔ لوگوں کے ساتھ نیکی سے پیش آئے تاکہ والدین کے لیے دعا کریں۔
- 30. Do good deeds with people so they pray for parents.

والدین کے وفات کے بعد کے حقوق

- ۳۱۔ ماں باپ کے دوستوں کا احترام کرے۔
- 31. Pay respect to parent's friends.
-
- ۳۲۔ اگر انکی نسبت کسی پریشانی یا مشکل کا اندیشہ رکھتا ہو تو اسکو برطرف کرنے کی کوشش کرے۔
- 32. If one is afraid of any difficulty in relation to parents then try to remove it.
-
- ۳۳۔ انکی چھوڑی گئی نشانیوں کی حفاظت کرے۔
- 33. Protect their left behind marks/signs/books / pen.
-
- ۳۴۔ چچا چچی اور ماموں ممانی سے ملنے کے لیے جاتا رہے، انکے ساتھ نیکی کرے اس نیت سے کہ اس کا ثواب والدین کو پہنچے۔
- 34. Frequently visit uncles and aunts of both sides and do good deeds with them, with the intention that the reward will go to parents.
-
- ۳۵۔ اگر چچا چچی یا ماموں ممانی کے یا رشتے داروں کے حق میں کوتاہی کی تو انکو راضی کرنے کی کوشش کرے۔
- 35. If they have missed out on the rights of paternal uncle and aunt or maternal uncle and aunt or other relatives then try to persuade them.

Parents Rights After death

- ۳۶۔ کوشش کرے کہ انکو خواب میں دیکھ کر انکے حال سے آگاہ ہو سکے۔
- 36. Try to see them in dream to get aware of their situation.
-
- ۳۷۔ خیرات، صدقات اور نیکیوں کو انکی طرف سے جاری رکھے بھول نہ جائے۔
- 37. Continue charity and good deeds on their behalf and do not forget.
- ۳۸۔ انکی قبر اور نام کی بہ احترامی سے حفاظت کرے۔
- 38. Protect their grave, name/identity from disrespect.
-
- ۳۹۔ اگر والدین مومن اور نیک تھے تو انکی ملاقات کی تمنا رکھے جیسے ائمہ اپنے والدین کی رکھتے تھے۔
- 39. If parent were believer and good then have desire to meet them just like Imams had for their parents.
-
- ۴۰۔ اگر انکی قبر خراب ہوگی ہو تو دوبارہ تعمیر کرائے۔
- 40. If their grave is deteriorated then rebuild it.